8. Seasons on the Earth's surface are caused by:

زمین کی سطح پرموسمول کی وجدہے:

Time: 40 Minutes	Paper G. S	Scie	nce 7th	Total Marks: 25		
6th Month, 4th Week, 5th	h Day Syllabu	ıs: F	Revision Test	syllabus	s (4th W	eek)
Q.No.1 Encircle the corr	ect answer fro	m t	he following	g choice	es.	(1×10=10)
	ددائرہ لگائیں۔	کے گر	اب کریں اور اُس۔	واب كاامتخا	سے درست	درج ذیل میں۔
. The earth revolves ar	ound:			مومتی ہے۔	کے گردگھ	ز مین
(a) Moon چاند (b) Sı	سورج un	(c)	Mars	رنځ (d) Uranu	يورينس s
2. Which of the following			on?	یں ہے؟	ئىشلىلىش)كاسىلىيىشن	ان میں سے کول
(a) Venus	وينس	(b)	Ursa major			أرساميجر
(c) Leo	لى او	(d)	Orion			اور یون ارسا میجر کے کے
. How many stars of u	rsa major?			ين؟	ننے ستار ہے	ارسامیجرکے کے
(a) One (b) T	تين hree	(c)	Five	d) پانځ) Seven	سات
On the end	d of the bowl p		-			
	_	اہ	نارے کی طرف ہوت Bright star	ے پر پول <i>س</i> ت	وَل کے سر۔	<u>į</u>
(a) Dim star	مدهم ستاره	(b)	Bright star			چبکدارستاره -
(c) Star	ستاره	(d)	Both a & c			aاورcدونوں
5. How many constellati	ions arc conve	ring	g the whole	sky?		<i>,</i> ,
		?ن	ع المعربية على المعربية المعر 88	<u>لتنے بھر مرہ</u> ا	تارے <u>کے</u> 	ڊر <i>ڪ</i> آ سان کو [،]
(a) 68 (b)	78			(d)	99
5. The study of objects f				יין אין און		•ارواسا ہی
(a) Dialogy	7.1.21	(b)	لعہ کہلا تا ہے: معدد معدد کا	جسام كالمطال	<u>ے والے ا</u> :	علام ن پائے جا تربیطہ آزمی
(a) Biology	با یونون س اا ج	(a)	احکہلاتاہے: Astronomy Physiology			ا منرونون فو الدح
(c) Archealogy /. Which of the following						خريا تو.ق
. Which of the followin	ig is the major	cat			((:454)	سمندری لهروں(
(a) heating oceans by	v the Sun	(b)	•	• •		
(a) heating oceans by the Sun سورج سے سمندر کا گرم ہونا			gravitational pull of the Moon جا ندي گر يو پڻ ي ڪشش			
earthquakes on the s	urface of the	(d)	change in the wind direction			
ocean floo کے فرش پر زلز لے	or	()	_	میں تبریل		
ے حرک پردتر ہے	مبدر					

(c) tilt of Earth on its axis (d) Both B & C (e) Summer (s) (d) (a) Spring (b) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the E	جوبي نصف كره ميں 22 جون كو								
9. What is the season on 22 June in the southern hemispher الكون الموسم موتائبي (b) autumn الكون الموسم موتائبي (c) summer الكون الكون الموسم (c) summer الكون ال	ere? جنو بی نصف کرہ میں 22 جون کو								
9. What is the season on 22 June in the southern hemispher ا كون اموم موتائي. (a) spring الري (b) autumn المري (c) summer (c) (c) summer (c) (d) 10. The weight of an object on Earth's surface is 600 N. weight on the Moon's surface? (a) 600 N (b) 300 N (c) 200 N (c) Q.No.2. Write the short answers. (2 × 6 = 12) (i) What is ursa major? (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can just in the surface is 600 N. (c) in the short answers. (c) in the short answers is a short answer in the short answers. (c) in the short answer is a short answer in the short an	جوبي نصف كره ميں 22 جون كو								
(a) spring المجاري (b) autumn المجاري (c) summer المجاري (d) المجاري (d) spring المجاري (e) summer المجاري (d) المجاري (e) summer المجاري (d) المجاري (e) summer (e) summe	جوبي نصف كره ميں 22 جون كو								
(a) spring المراكب (b) autumn المراكب (c) summer المراكب (c) summer المراكب (c) summer المراكب (d) المراكب المراكب (e) summer	جنو بی نصف کرہ میں 22 جون کو ا								
(a) spring المرك (b) autumn المرك (c) summer (c) summer (d) (d) المرك (d) summer (d) (d) (d) (e) summer (d) (d) (e) summer (d) (e) summer (d) (e) summer (d) (e) summer (d) (e) (e) summer (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	1								
weight on the Moon's surface? (a) 600 N (b) 300 N (c) 200 N (c) Q.No.2. Write the short answers. (2 × 6 = 12) (i) What is ursa major? (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can j	سردی winter (d)								
(ii) How is nebula formed? (a) (b) 300 N (c) 200 N (c) (c) 200 N (d) (d) 200 N (d) (e) 200 N (d) (i) 300 N (c) 200 N (d) (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 7 metre up on the Earth, how high he can jump 8 metre up on the Earth, how high he can jump 9 metre	10. The weight of an object on Earth's surface is 600 N. What will be its								
(ii) What is ursa major? (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 إنجياجمپ لگاسكتا ہے؟ (iii) How is nebula formed?	weight on the Moon's surface?								
(i) What is ursa major? (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 إنجيا جمپ لگاسكتا ہے، وہ جیا ند پر کتنا اُونچا جمپ لگاسكتا ہے؟ (iii) How is nebula formed?	ز مین کی شطح پرایک چیز کاوزن 0								
(ii) What is ursa major? (ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 إنجياجمپ لگاسكتا ہے؟ (iii) How is nebula formed?	(d) 100 N								
(ii) An athlete can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 5 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 6 metre up on the Earth, how high he can jump 7 metre up on the Earth, how high he can jump 8 metre up on the Earth, how high he can j	مخضر جوابات لکھیں۔								
نچاجمپ لگاسکتا ہے، وہ چاند پر کتنا اُونچا جمپ لگاسکتا ہے؟ انتا) How is nebula formed?									
(iii) How is nebula formed?	jump on the Moon?								
	ا بک اتھلیٹ زمین پر 5 میٹراونچا جمپ لگاسکتا ہے، وہ چاند پر کتنا اُونچا جمپ لگاسکتا ہے؟								
(iv) What is nebula?	نیبولا کیے بنتاہے؟								
	(iv) What is nebula? بولاكياب: ٩								
(v) What are astronomers? ومرزكيايين؟									
(i) What is meant by constellation. بتارول کے چھر مٹ سے کیام او ہے؟									
Q.No.3. Where stars are born? Explain. (3) ?وضاحت کریں۔	ستارے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟								